



פֿרָבררים על מדוב מרות מרות בל נים בלית בלריב אים ב 108 פית שלפים ב

عَوْتُ عُدُو مُرِدُ: 24 غَسَرَةَ 2024 فَعَرَ مُرَوَّد

عَوْتُ وْسِر مَاءِ: وُسِرِقُرِيْدُ: 10:30

عَوْبٌ سِوْسٌ دَء: وُسُوْرُد: 12:40

डेर्ट देर्प देर्प देर्दर

1. بررسمة فرردع وَبُري: بردوسود برب مردور سبرة

פליחת לי העל בל היים של את של אלית

1. كردس مؤد مرده كريث دروز سر ده مردد

2. كَدْسُونُ وَوْفَيْ الْوَسُونُ وَلَوْ الْمُرْدُ وَلَا فِي مُوسِودُ فَرَوْ مُرْفِعِ وَفِرْدُو فَرَوْ وَفَوْمِرُسُورُ وَ

3. ערת הל לפשל שתרא תפאר

4. كَرْسُورُ وُوْفَكُمْ مُرُورُهُ مُسْمِوُ وُ

פיל מת א שיני ל מפתם עות שיל של

- فَرُسُدُ سُرِيرُهُ:
- سور برغ بر مرس برد مرسود مورد كر الرد.



: 2066

- 1. رُهُوْسُرُ وَرُدُودُ \$ 108 وَسُرُ غُوْسُودُ مُغَمِّدٌ وُسُعِيْسٍ.
- 2. رَهُمْوَسُ وَمُمْدُهُ 107وَسُ عَوْسُهُ مَرْدُومُمُّ وَصَعْمِسُ.
 - 3. وسرع الرسم أوسر والموترش
- 4. كَارْسُ مِوْدُ وَكُوْمُ مُ مُورِ وَلُو فَرَحْمُ مُ مَرِدُ فَارْدُونُ وَمُعْمِ وَمُومُ مِنْ وَهُو



תית לית הרחבר:

- 1 אפתה באבה .
- رُهُوْمَرُ مُرْمَدُهُ 108 وَسَرُ عَوْسَاءُ مُعْمِدًا وُسَرِيمِر.
- رُوَدُوْسَ وَرُدُودُ \$100 وَسَرَ عَوْسَاءُ دُعْمِرًا وَسُودُو.
- יתית כצים לינינים: עליתים ל כנים ב שתרא תים אורם.
- درد درد مرسود سرم عرب دردو سر ره برد.
- و وَسُرَمَادُمُ وَهُوَ مُرْهُ مُرْمِدُ مُرْمُ مِوْدُ سُرِهُ مُرَبِّ مُرُودُ سَمِ رِهُمُرِدُ، مَرْسَوْ وَوَهُ لَرُوسَوْ وَوَهُ الرَّمِيْدِ وَهُو اللهِ مَا مُرْدُودُ سَمِ رِهُمُرِدُ، مَرْسُوْ وَوَهُ لَا مُرْمَدُ مُرْدُودُ مُسَوِّدُ وَهُو اللهِ مَا مُرْدُودُ مُسَوِّدُ وَهُو اللهِ مَا مُرْدُودُ مُسَوِّدُ.
 - הלים הליל לים לים לחק ליתם אית: -
 - יסינה פתפתפתפתפ בתשאת: -

27.50	, ×	235	يتريش	#
28-01-2024	ghun frant	كارشرسورى مرس	2500 3500	1
28-1-24	Consil 7	עריית של ב אוני אוני אוני	הלל הית הפאל	2
31/1/2024	JMS	2000 0000	रूर्व हेर्	3
28-1-2024	li)	2000 00000	בארג הפאקונ	4
0-01-2024	AScrap	2605 30-032	25000 3200	5



- 2 วัยกล์ เกลล์ •
- לפצפת ברגב 107 פת של הרב הרב התל בישיאת.
- و رُوُرُوسَ وُرُدُو 107 وَسَرَ عَرُبُ وَ مُدُو وَ وَمُرْرُودُ وَ مُدَرِدُهُ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالَّالِي اللَّالَّالِي مِنْ اللَّالِيلُولُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِيلَّالِمُ لَا لَاللَّهُ ول
 - יתית כצם לעל בל בל יצר בל ישל לבשא התכב השל כ
 - عُدِدُنْ مُرْدِ: كَارْسُ سِوْدُ سُرَهُ مُرْبُ مُرْدُوْرُ سَمِّرِ رِفْعُرْدِدُ.
- وَسُرَّرُورُ وَجَوْرُو وَسُرْهُ يُرِينَ كَرُسُ مِوْدُ سُرِهُ مَرْبُ مُرُورُ مَرِّرُ رَهُمُ الْمُرْسِوُ وَوَهُمُ الْرُحِينَ مُورٍ، كَرُسُومِ وَوَهُمُ عَسُرِمُ مِهْمُ رُونُ كَنْ الْمُرْسِوْ وَوَهُمُ الْمُرْدُورُ الْمُسْوِقُ وَوَهُمُ الْم
 - הל מת מת מל ל מים ל מת ב מת מל יים : -

2×50)×	25.5	متر يتر	#
28.01.2024	Humbrid	مُدُرُّرُ مِنْ مُرْدُّ مُرْدُرُ	رُرُوْمُ سِمِيَّةً	1
28.1-24	Chall 5	مُدُمْرُ مِرْدُ مُرْدُهُ مُرْدُهُ مُرْدُهُ مُرْدُ مُرْدُ	مُرُورُو سَاسِ رَفْعُرُرُو	2
31/1/2024	trus	ئارىرسىۋ دۇھىر	** *** ***	3
28-1-2024	Lis	مُرْسِرِ وَوَهُمْرُ	2/200 \$152	4
0-01-2024	A 8/celler	٧٤٠٠٠ و و و ١٠٠٠	3500 3300	5

- 3 3811 2061 .
- و سرع الرس الرس المسرور
- و مرع المساول و المرام و و المرام و ال
- سرسرد ده ريرورو: مرسور وده ي عدمي ده مردو.
- مُورِوْرِ مِرْمُونِ مُرْمُ سُورُو مُرْمُ مُرْبُ مُرْدُورُ سَمِ مِ مُدَرِدُ.
- و وَسُرَّرُورُ وَجَوْرُهِ وَسُرُهُ يُرَدُّ مِرْسَاوُو سَرِهُ مَرْسَ مِرْدُورُ سَرِّ رِفَيْرُو، مَرْسَوْ وَوَفَيْ رُّرِسَوْ وَيُ مَرُدُورُ وَجَوْرُهِ وَسُرْهُ يَمْرِيرُ رِفْعُرُو، مَرْسَاوُ وَوَفَيْ مُرْدُورُ مُسَاوُدُ. وَيُ مَرْسَاوِ وَوَفَيْدُ عَسْرِيرُ رِفْعُرُو، مَرْسَاوُ وَوَفَيْدُ مُرْدُورُ مُسَاوُدُ.

0 × 50	××	333	متر متر	#
26.01.2024	funding	المرسود عرب	رُرُورُ سِرِيرُ فِي	1
28.1-24 (Dd 5	مُدُمْرُ مِوْدُ سُرُمْ مُرَاثُ مُرَاثُ	مُرْدُوْرُ سَاسٍ رِفْعُرُرُدُ	2
31/1/2024	tus	יותית בל לכשא	رُّدِ مِرْمُهُ رَبِي	3
28-1-2024	di i	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	פיל אל מיל אל מיל ל	4
80-01-2024	[Scelle	2695 30-025	3501 3501	5

- 4 36,5 20 65 .
- و مرسوع و درس مرسود و مرسوم مرسود و مرسوم مرسود مرسود

	אעאצ העהע פשאפע שהעלידי
2000 5350 2000 2000 5000 5	01 5 01 3 70 01 3
ردی در	לים מנג ליים
0 200 100 200 200 200 200 200 200 200 20	ת בין
ر در	رسوم در سربرها، رهرات رسره رسوم در سربرهای وهرات رسره
ארס אריבי אר הְבֹּאסְרְ שׁׁרְ צְּיִרְ בְּּרָ אַמְרְ שׁׁרְ צִינְיִם בּמָּתְ שׁׁרְ בּמָּתְרְ שׁׁרְ בּמָתְרְ שׁׁרְ בִי שִׁנְבִינִים בִי שִׁפָּאִיעאָכִיק	مرسوع پر در دوج
ر المرام	مرسع مر مردد مردد مردد مردد مردد مردد مردد
مُرْدُ صَرِمَهُ وَمُدَّدُورُهُ اللهِ اللهِ وَمِرْدُهُ اللهِ وَمُرْدُهُ اللهِ وَمِرْدُ مِرْدُهُ اللهِ اللهُ اللهِ	ر و و م م مرسور مرم مرسور مرم مرم مرم مرم مرم مرم مرم مرم مرم م
ברצת פרת בל הבל הלא ATM בשתים	مِ وْمَ سُورٍ مُعَمَّدُ وَمُرْدِمُ مِنْ مُعَمِّدُ مُنْ وَعُمْ
4 مرد در ترمی	× 89 2+16
مرد مرسو رقره در مرا مرد در مرد مرد مرد درد در مرد درد مرد در مرد در مرد مرد	exer 800, 1000 000 000 000 000 000 000 000 000
د ده	سرونو سرروب مرد سرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد م
رد و در در می می در در می در در می در	- 3× (20 200) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	وسرسوع بر مر سوس، ورو دو برسروسرع مرس

ره و مرس	0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
בית היים אין הייל בית מקורה בית היים אין הייל בית מקורה	و در
ومرسط من	תשת של של מל
בתפתאת בל התפתחים	20000000000000000000000000000000000000

- תתכצא לתוצתם: עלת של כנסג שתרא נפאני.
- وَسْرَمْرَدُو وَهُوَهُ وَسُوهُ مِنْ مُرْسَاوُهُ سَرِهُ مَرْبُ مُرْدُو سَمِ مِهْمَّرِدُ، مَرْسَوْ دُوهُ لَا مُرسَ وَسُرَمْرَدُو وَهُوهُ وَسُوهُ مِنْ مُرْسَاوُهُ مَرْمُ مَرْبُ مُرْدُو مُرَدُو مُسَارِدُ، مَرْدُو مُرْسَوْدُ دُوهُ لَا مُرْدُونُ مُسْرِدُ وَوَهُلَا مُرْدُونُ مُسْرَدُهُ مُسْرَدُهُ وَمُودُدُ. مَوْ الْمُرْسَاوُ وَدُهُمُ عَسْمِمُ مُرْهُمُ مِهْمَرِدُ الْمُرْسَوْدُ وُدُهُمُ مُرُودُ مُرْدُونُ مُسْرَدُونُ
 - הל ליתי מל הל לי הל לי לי לי לי בית שי איתי -
 - פשצת שת פת פת פת פת פת פיני -

27.50	,×	2 % 2	يتريثر	#
28.01.2024	April July	مُرْسِ مَوْدُ مُرْسِ مُودُ	رُرُورُ سِمِيْ	1
28-1-24	wdt 7	مُرْسِرُ مِنْ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمِ	היכל הית הפתר	2
31/1/2024	dus	مارشرسو دوهم	رُّدِ مِرْمُ رَبِعِ	3
28-1-2024	di s	מתית הפל ככשא	איני איני איני איני איני איני איני איני	4
0-01-2024	AS/any	2600 00000	היכב השל	5



- 5 วิธาล์ เคล้า .
- פ הייני שינית שיני בי השקפה האות ביני בינים ביני
- 15 وَسَرُ وَّدُورُدُ (سِ) کُ کُورُدِ دِسُرْسَرِهِ وَّدُورُ دِورِدِهِ، دُ وَدُورُدُ (سِ)، (سِ) دَدِ (سِ) دُ مُرْمِوْهُ (سِ)، (عر) كرور (٥) م كورو والمرسود
- (١) وِدْ بِهُودُدُ رِخْرُدُو نَهُ مُونَدُ وَمُودُ وَمُرَا وَفُرُ وَرُبُورُ مُرْسُارُهُ وَمِرْدُرُورُ وَوَمَر وَرُدُ ن مَرْ الله مَرْ الله مَرْ -/500 (وَ مُرْمُورُ) كُرُورُدُهِ -/1000 (دُدُرُ) كُرُورُدُ وَوَيْ دُورُورُ دُورُو في بروَسَّرْن يُرِسُرُ وَمِنْ وَرَيْدَ نَامْ جَرَيْدُ نِيْ جَرِيْدُ وَمِنْ وَمِنْ أَلْكُ) يُرُورِدُهِ -/3000 (مِيْرُ رَبِّ) يُرُورِدُهُ اللهِ عَلَى اللهِ مُؤْذُهُ كُمُ مُرْكُمُ فَيْ مِوْمَرُنْ مُرْدُ وَمَرْ وَرَكُمْ لَا مُرْمَدُ مُرْكُمْ مِرْمَدِ مِرْدُ -/3000 (مِيْرُاتُ) كُرُومِرُّهُ وِ-/5000 مُرْدُنْ مُرْكُمْ مُرْكُمْ مِرْكُونِ مِرْدُ -/3000 (مِيْرُاتُ) كُرُومِرُّهُ وِ-/5000 مُرْدُنْ مِنْ اللهِ مُرْكُمْ مِنْ اللهِ مُرْكُمْ مِنْ اللهِ مُرْكُمْ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مِنْ اللهِ مُرْكُمُ مُرَكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرَاكُمُ مُرَكُمُ مُرْكُمُ مُرَكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرَكُمُ مُرْكُمُ مُرِكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرّكُمُ مُرَكُمُ مُرّكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُرْكُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُركُمُ مُولِعُ مُركُمُ مُولِكُمُ مُركُمُ مُ مُركُمُ مُركُمُ مُولِمُ مُركُمُ مُركُمُ مُولِكُمُ مُركُمُ مُولِكُمُ مُركِمُ مُ مُركِمُ مُركُمُ مُ مُولِعُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُ مُركِمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُولِكُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُمُ مُ مُولِكُ (وَ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَعْرُو وَرَيْنَ -/5000 (وَسَرَّ عُرُورً فَيْرِي مُورِدً وَرُودُ وَرُحِورُ وَرُدُو وَرُبُو وَرُدُو
- (سر) مُورِ وَرُسُورُ بَرُورُونِ وَرُسَوَرُدُ هُوَيُرُ عَوْرِ لَارْسِوْرُ وَلِرِمَعِيرُو وَوَيُونِ فِيرِهِ لِي נסנינים בינים בינ
- (ع) د دُوْدِهُ وَمُرْمُونُ دُرُ مَنْ وَدُرُ مِنْ وَدُرُ مِنْ وَدُرُ مُرْمَا وَمُرْمُونُ مُرَّا وَمُرْمُونُ مُدُ ישרב לאב ה שכה מצות באפעת בהעתב נתהפ.
- (ه) رَجُدُ وَرَجُرُونَهُ مِجْمِرُ لَا جُرِيْدِي وِسَرَ مَنَاشَ عَسَرَدُونِهُ مَشِرَةً 7 فَرَوَّرُهِ נינים בינים בינים מי בינים ביני לפבת בעם בינים בינים
 - سرسرد ده (تراورو: مرسرسود کرد مردور سردی.
 - केर्द्रभ्रत्यः प्रत्यान्तं १६०% तेट्रपंत्रं तेष्
- و مُرْدُرُدُونُ وَكُونُ وَ وَرُونُ وَدُونُ مِرْدُونُ مِرْدُونُ مِيْرِ وَكُونُ مِيْرِدُ مِنْ رَفَعُ مِرْدُونُ مُرْدُونُ مِيْرِ وَكُونُ مُرْدُونُ مِيْرِدُ وَكُونُ مُرْدُونُ مِيْرِدُ وَكُونُمُ مُرْدِمُونُ مِيْرِدُ وَكُونُمُ مُرْدِمُونُ مِيْرِدُ وَكُونُمُ مُرْدِمُونُ مِيْرِدُ وَكُونُمُ مُرْدِمُونُ مِيْرِدُمُ وَكُونُهُ مُرْدِمُونُ مِيْرِدُمُ وَكُونُهُ مُرْدِمُونُ وَكُونُهُ مُرْدِمُونُ مِيْرِدُمُ وَكُونُهُ مُرْدِمُونُ وَكُونُهُ مُرْدِمُونُ وَكُونُ مُرْدِمُونُ وَلَوْنُهُ مُرْدِمُ وَلَوْنُهُ مُرْدِمُونُ وَلَوْنُهُ مُرْدِمُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ مُرْدِمُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ مُرْدُونُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَوْنُهُ مُرْدِمُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ مِنْ مُنْ مُرْدُونُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلَانُهُ وَلِي لِلْمُعْمِلُ وَلَانُونُ وَلِي لِلْمُ لَانُونُ وَلَانُهُ وَلِي لِلْمُعْمِلُ وَلِي لِلْمُعْمِلُ وَلِي لِلْمُعْمِلُ وَلِي لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ من المرسود ودهم عمره معرد المرسود ودهم مرود مسود.
 - בופת ברת (-) ביילינים ל ברת היא היא בפתר ביילים ב
- - (م) وَهُ صُرِمُ وَدُوْ وِرَوِّهِ مِنْ وَرَدِّ مِنْ وَمُنْ مِنْ وَعَلَمْ وَرَنْ \$ 50 (0.5 وَجِر).

- תמרכצם נתוצתם: ערת של כפסג שתרא תפאנו.
- ورود مرمو: مرموسود مرم مرم درود سرم ده مردد.
- و وُسْرَمَاوُرُ وَجَوْرُهُ وَمُرْهَدُنُ مُرْسَاءُو مُرَدِهُ مِرْبُ مُرْوَدُ سَمِ رِهُوْرُو، مَرْسَوْ وَوَهُ دُوسَيْ وَيُ مَرْمَاوُرُ وَجَوْرُهُ وَمُرْهَدِينَ مَرْسَاءُو وَهُو مُرْبُ مُرْدُو مُسَارِدُ وَهُو دُوهَ دُرُورُ وَمُسَا
 - ית ביים על כי פש בתתם בייתם אנית: -

2,450	>×	25.5	90 Ju	#
28.012024	Almpint	مُدُرُّ مُدُرِّ	مرد در سرمرج	1
88.01-24	Laner	مُدُمْرُ مُرُدُّ مُرْدُهُ مُرْدُهُ مُرْدُ	مُرُورُ سَامِ رِفْعُرِرُ	2
31/1/2024	<u>tui</u> s	2600 00000	رُّدِ مَرْمُ وَجِ	3
31-1-2024		2635 3-032	בייתר תפילור	4
8-01-2024	A & cell	2695 3-036	היכב השקב	5

- 6 วิธาล์ เกล้า •
- مُرَدِّ الْمُرْسِوْدُ وَوْهَ لَهُ رَحِيْ الْمِرْسِ الْمِرْسِ الْمُرْسِ اللهِ الله
- كَارْشِ وَكُوْشُونُ كُوْرُونُ كُوْرُونُ \$ 32 وَكُورُ رَّدُونُونُ (س) وَرُدْشُ وِجٌ كُورُجٍ 80 وُهُ تُرْدَبِهِ 2024 وُمِونُدُونُ 03 وَفَ فُرُورُنُو وَقُرِدُونُ وَرُدُنُ وَرُدُنُ وَرُدُونُ مُرِدُنُ مُرِدُنُونُ مِنْ وَمُرْدُونُونُونُونُونُونُ
 - سرسرد ده (تركورو: كارسو وده عمر عسرمر مهمرد.
 - פרבעאתפ: ערת בל ככשא היכב השלכ.
- و وُسْرَمَارُوْ وَهُوَهُ وَمُرْهُ يُرِيْدُ مَرْسُونُ مَرْسُ وَمُرْدُو مُرْدُو مُرْدُونُ مُرْدُو مُرْدُونُ مُرْدُو مُرْدُونُ مُرُدُونُ مُرُدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُرْدُونُ مُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْ
 - י הל התיעל פיש בתר ב ביתם אית: -
 - פ פפצת פתפת פת לתפ לתפת יורת ל כפשל תכת הל הל

مير ز	> <u>></u>	2 5 5	מק' מיק	#
28.01.2024	Ambris.	كارْ شرسورى بررس	رُرُورُ سِرِيرُ فَيْ	1
28-1-24	Wal 7	مُدُمْرُ مِرْدُ مُرْدُهُ مُرْدُهُ مُرْدُهُ مُرْدُهُ مُرْدُهُ	مُرُورُ مِنْ مِنْ مِنْ مُرْدُورُ	2
90736 80709x	910 1589	مُدُرُّرُ مِنْ وُرُوْهُمْرُ	مُرْسِرُهُ مَرْدٍ	3
28-1-2024	7	مُرْسِر سِوْ وُوْهُمْر	3/201 2152	4
30-01-2024	Ageille	مُدُمْرُ وَدُوهُمْرُ	2701 3101	



252	ית'יני	#
من برغ بر في سر بحر فر	جُرِيمَةُ مَصْرِةً رُقَرُدُ	1

رَدُوِدُرٌ وِرَدُرٌ وَرَدُرُ مُرِدُ: 1445 مَنْ 1445 2024 مَنْ وَمِدُ 2024

כתרכרתצת ל כהלכם אתצעעלת בשעת נכפ.

o #	~			_
مُرير	Ž,	وَ يُؤْدُ	يتريش	#
28-01. 2024	Hunging	مُدُرُّر عَوْدُ مُرْدِ	مردور سريدة	1
28-1-24	and 5	مُدُمْرُ وَوْدُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ	הגל בין הפאל	2
31/1/2024	Juns	مردس عوده مر	رُّو مَرْمُ رَبِّ	3
28-1-2024	Lijs	×022 5-021	שלתא הפאני	
0-01-2024	A Scoule	2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	250, 250,	5







6. 145, 66/xVB

05.45	Ap/cell no.15	237	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 rational
09:45		`\$'	12"	2525-65
twas		×Ţ'	مدرره دو	,, 00,
09:45	,	2 4		
(mal = 09:45		×Ţ×	0000 To 0000000000000000000000000000000	
45 Show hit	֓֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓		2000 - 2000 2000 - 2000 2000 - 2000	
09:45	1 2 3		71	
4		1	02	
24-01-2024		200	70	





و. مروز وورمرم

مُرِيرُ: 17 عُسَرَفَهِ 2023 فَمَرَ مُرُوَّا

يَاءِ: رُسرڤريٹر 10:30

: 20 66

- 1. رَمَيْرُوسَ وَرُدِيْءُ 107 وَسَرَ عَرْبُعُ مُ مُعْمِدًا وَسَرِيْسِ
- 2. رَمَيْرُوْسَ مُرْدُرُهُ \$ 105 وَسَرَ جَرُبُ مَعِي \$ 106 وَسَرَ جَرُبُّهُ وَمُرْدِدُمُ وَصَادِيْد.
- 4. سون دره ۵۳۰ دره دود دره رود دره المرور و الم
- دُونُدُ وَبُدُونُو رُدُ (كُلُّ رُوَسِدُونُو) و. تَدْرُ 20 عِنْدُونَدِ وَسِرُونُو وَسُونُ سِعِ، وَسِر دُرَوْنَ وَبُرُونُو وَسُعِ، وَسِر دُرَوْنَ وَمِرْدُونُ وَمُونُونُ مِنْدُونِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

15 جَسَرَةِ بِدِ 2024





ئو خَرَمْجَدْ عَدْدْ عَدْدْ عَدْرْ مَوْرَهُ رَجَهُ وَمَرْ دَوْرَدُو بَرَضُو 108 وَسَرَ جَوْبُ 24 جَسَوَهِ 2024 وَ هُوَ دُوْرُو مُرْسِرُونْ 10:30 وَدِوْرِيَّدُ خَوْبُ الْعَيْدُ وَجُوْدُورِ دِسْرِسْرُدُوْ.

ودًا وعوسار وعدد وروسرو وروه وردد.

11 مَرْجَةُ 1445

22 يَسْرَوَيدٍ 2024

75	מרימים בי מים אנית מרימים בי בי מים אנית
ghu tut	ور مرور مرور مرور مرور مرور مرور مرور م
(ned)	ره مرر مروو سود مردوم سر ره مرد
that	رُسْسِونِهِ رُوُوْسِنُو رُدِيرَةُ رُدِيرَةً رُدِيرَةً وَيُ
10 house	וריתושים או תל צייים לי איתר א תם אל על
Ayoung	התית הלא הלציים הל הלכם היים ל